

تجرباتی زیر تحقیق فرد کے

حقوق کا بل

ذیل میں بیان کردہ حقوق ہر اس شخص کے حقوق ہیں جسے کسی تحقیقی مطالعہ میں شامل ہونے کو کہا جاتا ہے۔ ایک تجرباتی زیر تحقیق فرد کے بطور مجھے مندرجہ ذیل حقوق حاصل ہیں:

- (1) یہ بتایا جائے کہ مطالعہ کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
- (2) یہ بتایا جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور آیا کہ کوئی طریقہ ہائے کار، دوائیں، یا آلات معیاری پریکٹس میں استعمال ہونے والوں سے مختلف ہیں،
- (3) تحقیق کے مقاصد کے لیے میرے ساتھ جو چیزیں ہوں گی ان کے اکثر اور/یا اہم خطرات، ضمنی اثرات، یا بے آرامیوں کے متعلق بتایا جائے،
- (4) یہ بتایا جائے کہ کیا میں شرکت کرنے سے کوئی فائدہ ہونے کی توقع رکھوں، اور، اگر ایسا ہے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے،
- (5) یہ بتایا جائے کہ میرے پاس اور کیا انتخابات ہیں اور وہ مطالعہ میں شامل ہونے سے بہتر یا بدتر کیسے ہو سکتے ہیں،
- (6) مطالعہ سے متعلق کوئی بھی سوالات پوچھنے کی اجازت دی جائے، شامل ہونے سے پہلے بھی اور مطالعہ کے عرصے کے دوران بھی،
- (7) یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی پیچیدگیاں ہو گئیں تو کس قسم کا طبی علاج دستیاب ہے،
- (8) شرکت کرنے سے سرے سے ہی انکار کر دوں یا مطالعہ شروع ہو جانے کے بعد شرکت کے بارے میں اپنا ذہن تبدیل کر لوں۔ یہ فیصلہ میرے اس نگہداشت کو موصول کرنے کے حق پر اثر انداز نہیں ہوگا جو مجھے مطالعہ میں نہ ہونے کی صورت میں بھی مل جاتی،
- (9) منظوری فارم کی ایک دستخط شدہ اور تاریخ ڈالی ہوئی نقل وصول کروں،
- (10) اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ کیا میں مطالعہ میں شامل ہونے سے متفق ہونے کا/کی خواہش مند ہوں تو اس وقت دباؤ سے آزاد رہوں۔

آپ کا مطالعاتی ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آیا تحقیقی مطالعہ (Food and Drug Administration, FDA) کے ذریعے منضبط کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مطالعہ ایف ڈی اے کی جانب سے Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) کے تحت منضبط کیا جاتا ہے تو ایف ڈی اے مطالعہ میں آپ کی شرکت سے متعلقہ تمام ریکارڈز کا معائنہ یا انہیں نقل کر سکتا ہے۔

اگر آپ کے دیگر سوالات ہیں تو آپ کو تحقیق کنندہ یا تحقیقی معاون سے پوچھنا چاہیے۔ مزید برآں، آپ ادارہ جاتی جائزہ بورڈ (آئی آر بی) سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو تحقیقی پروجیکٹس میں شرکت کنندہ کے تحفظ سے متعلق ہے۔ آپ سوموار تا جمعہ صبح 8:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک (415) 476-1814 پر کال کر کے، یا UCSF Human Research Protection Program, Box 1288, 490 Illinois Street, Floor 6 San Francisco, CA 94143 کو خط لکھ کر، یا irb@ucsf.edu پر ای میل کر کے آئی آر بی کے دفتر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ترجموں کے بارے میں معلومات کے لیے (415) 476-1814 پر کال کریں یا irb@ucsf.edu کو ای میل کریں۔

شرکت کنندہ کا دستخط برائے منظوری

شرکت کنندہ کا نام

تاریخ